



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

پی ایم جن دھن یوجنا کے 11 سال: بینک تک رسائی سے محروم افراد کیلئے بینکاری کی سہولت

“پردھان منتری جن دھن یوجنا نے غریب ترین عوام کے لیے مالیاتی خدمات تک رسائی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اس نے بینک کھاتہ رکھنے اور بینک کھاتے سے محروم عوام کے درمیان فرق کو ختم کیا ہے اور وقار، خود انحصاری اور اقتصادی شمولیت کو فروغ دیا ہے۔”

وزیراعظم نریندر مودی

یوجنا سے متعلق خاص باتیں

- 28 اگست 2014 کو شروع کیا گیا، پی ایم جے ڈی وائی دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی شمولیت کے اقدامات میں سے ایک ہے۔
- پردھان منتری جن دھن یوجنا (پی ایم جے ڈی وائی) کے تحت 56.16 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں، جس میں اگست 2025 کے وسط تک کل ڈپازٹس 2.67 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئے ہیں۔
- 56 فیصد جن دھن اکاؤنٹس خواتین کے ہیں، جو مالیاتی رسائی میں صنفی مساوات کو فروغ دینے میں اسکیم کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔

تعارف

ملک میں ایک دہائی قبل، بہت لوگوں کے لیے، خاص طور پر دیہی اور پسماندہ کمیونٹیز کے لیے بینکنگ ایک دور کا خواب تھا۔ باضابطہ مالیاتی خدمات تک رسائی نہ ہونے کے باعث، لاکھوں افراد گھروں میں نقدی بچت پر یا قرض دہندگان سے زیادہ سود والے قرض لینے پر مجبور تھے، جس نے انہیں بے بسی کے گرداب میں جکڑ رکھا تھا۔

اگست 2014 میں یہ حقیقت بدلنا شروع ہوئی۔ مالی شمولیت کے قومی مشن کے طور پر شروع کی گئی، پردھان منتری جن دھن یوجنا (پی ایم جے ڈی وائی) کا مقصد ہندوستان میں ہر ایک غیر بینک شدہ بالغ شخص کو ایک بینک اکاؤنٹ، ایک مالی شناخت اور کریڈٹ، انشورنس اور پنشن جیسی ضروری خدمات تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ بینکنگ کی سہولت سے محروم افراد تک بینکنگ کی رسائی، غیر محفوظ افراد کو محفوظ بنانے، مالی اعانت سے محروم افراد کو مالی اعانت فراہم کرنے اور پسماندہ اور کمزور افراد کی خدمت کے مشن کے تحت پی ایم جے ڈی وائی دنیا کا سب سے بڑا مالیاتی شمولیت کا اقدام بن گیا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

کنیزورلڈ ریکارڈ نے پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت حاصل کی گئی کامیابیوں کو بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ تصدیق کی گئی ہے کہ “مالی شمولیت کی مہم کے حصے کے طور پر ایک ہفتے میں کھولے گئے سب سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کی تعداد 18,096,130 ہے اور اسے محکمہ مالیاتی خدمات، حکومت ہند نے حاصل کیا ہے۔”

اس اسکیم کے 28 اگست 2025 کو 11 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اس کی کامیابیاں ملک بھر میں نظر آرہی ہیں، دیہی کھاتوں کی ملکیت میں اضافے سے لے کر ڈیجیٹل لین دین میں اضافے تک، ایک بدلے ہوئے مالیاتی منظر نامے کا اشارہ ہے۔

اسکیم سے متعلق بنیادی باتیں

بینک تک رسائی سے محروم افراد کیلئے بینکاری کی سہولت۔ کم سے کم کاغذی کارروائی کے ساتھ بنیادی بچت بینک ڈپازٹ (ڈی ایس بی ڈی) اکاؤنٹ کھولنا، آسان کے وائی سی، ای۔ کے وائی سی، کیپ موڈ میں اکاؤنٹ کھولنا، صفر بیلنس اور صفر چارجز کی سہولت ہے۔




غیر محفوظ افراد/ہاتھوں کا تحفظ۔ نقد رقم نکالنے اور تاجروں کے یہاں ادائیگی کے لئے ڈیبٹ کارڈز کا اجرا، جس کے ساتھ 2 لاکھ روپے تک کا مفت حادثاتی انشورنس تحفظ بھی شامل ہے۔

مالی سہولت کی فراہمی۔ دیگر مالیاتی پروڈکٹس جیسے مائیکرو انشورنس، استعمال کے لیے اوور ڈرافٹ، مائیکرو پنشن اور مائیکرو کریڈٹ کی سہولیات۔

پی ایم جے ڈی وائی کے تحت فوائد

پی ایم جے ڈی وائی افراد کی متنوع مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامع فوائد فراہم کرتا ہے، جو تحفظ اور بااختیاری دونوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اس میں صفر بیلنس اکاؤنٹس، انشورنس کے ساتھ روپے ڈیبٹ کارڈز، اوور ڈرافٹ کے اختیارات، اور دور دراز علاقوں میں بزنس کورسپونڈنٹس کے ذریعے سہولت تک رسائی جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ یہ اقدام شمولیتی اقتصادی ترقی اور سماجی مساوات کو فروغ دیتا ہے، اور مستفیدین کو دیگر سرکاری پروگراموں سے بھی جوڑ کر مالی استحکام کو بہتر بناتا ہے۔

VALUE ADDITIONS OF PMJDY



Source: Ministry of Finance

- بنیادی بچت بینک ڈپازٹ اکاؤنٹ (بی ایس بی ڈی اے)۔ کوئی بھی ہندوستانی شہری جو معیاری بینک اکاؤنٹ کھولنے کا اہل ہے وہ بھی بی ایس بی ڈی اے کھول سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کی قسم کو کم از کم بیلنس برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینک کی شاخوں، اے ٹی ایم اور بی سی کے ذریعے لین دین کیا جاسکتا ہے۔ واپسی ہر ماہ زیادہ سے زیادہ چار تک محدود ہے۔
- اس سال اکاؤنٹ / چھوٹا کھاتہ۔ ایسے افراد کے لیے جو رسمی قانونی دستاویزات نہیں رکھتے، چھوٹے اکاؤنٹ کھولے جاسکتے ہیں۔ یہ 12 ماہ کے لیے کارآمد ہیں اور اگر پہلے سال کے اندر سرکاری طور پر درست دستاویز کے لیے درخواست کا ثبوت جمع کرایا جائے تو اس میں مزید 12 ماہ کی توسیع کی جاسکتی ہے۔
- ان بلت ایکسیڈنٹ انشورنس کے ساتھ روپے ڈیبٹ کارڈ۔ تمام فائدہ اٹھانے والوں کو 2 لاکھ روپے (28 اگست 2018 سے پہلے کھولے گئے اکاؤنٹس کے لیے 1 لاکھ روپے) کے ایکسیڈنٹ انشورنس کور کے ساتھ ایک مفت روپے ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے۔
- اوور ڈرافٹ کی سہولت۔ فائدہ اٹھانے والے 10,000 تک روپے کی اوور ڈرافٹ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔

- کاروباری نمائندے (بی سیز / بینک متراز)۔ ریٹیل ایجنٹ جو بینکوں کے ذریعے برانچ / اے ٹی ایم کے مقامات سے باہر، خاص طور پر دیہی علاقوں میں بینکنگ خدمات پیش کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ بی سیز / بینک متراز رہائشیوں کو بچت، ڈپازٹس، نکلوانے، اور منی اسٹیٹمنٹ میں مدد کرتے ہیں، بینکنگ خدمات ملک کے آخری شخص تک فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔
- اضافی سرکاری اسکیموں کے لیے اہلیت۔ پی ایم جے ڈی وائی اکاؤنٹس براہ راست بینیفٹ ٹرانسفر (ڈی بی ٹی)، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا (پی ایم جے جے بی وائی)، پردھان منتری تحفظ بیمہ یوجنا (پی ایم ایس بی وائی)، اٹل پنشن یوجنا (اے پی وائی)، اور مانیکرو یونٹس ڈیولپمنٹ اینڈ ری فنانس بینک (ری فنانس بینک) اسکیم کے لیے اہل ہیں۔

نمایاں کامیابیاں اور اثرات

پردھان منتری جن دھن یوجنا (پی ایم جے ڈی وائی) نے پورے ہندوستان میں مالی شمولیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور درج ذیل اہم سنگ میل کو حاصل کیا ہے:

مالی سہولیات کے نئے امکانات

- پی ایم جے ڈی وائی متعدد معاشی اور فلاحی اقدامات کی بنیاد میں تیار ہوا ہے، جس نے 327 سرکاری اسکیموں کے لیے براہ راست فائدہ کی منتقلی (ڈی بی ٹی) کو فعال کیا، لیکچ اور درمیانی افراد کو ختم کیا۔



- اکاؤنٹس 2015 میں 14.72 کروڑ سے بڑھ کر اگست 2025 تک 56.16 کروڑ سے زیادہ ہو گئے، تقریباً 67 فیصد دیہی / نیم شہری علاقوں میں اور 33 فیصد جن دھن اکاؤنٹس شہری / میٹرو علاقوں میں کھولے گئے۔
- جن دھن اکاؤنٹس کا 33 فیصد شہری / میٹرو علاقوں میں کھولا گیا ہے جبکہ 67 فیصد دیہی / نیم شہری علاقوں میں کھولا گیا ہے۔

پی ایم جے ڈی وائی میں سب سے زیادہ خواتین کے کھاتے کھولے گئے

اس میں 56 فیصد جن دھن اکاؤنٹس خواتین کے ہیں، جو مالیاتی رسائی میں صنفی مساوات کو فروغ دینے میں اسکیم کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ خواتین، خاص طور پر غیر منظم شعبے میں، سماجی تحفظ اور کریڈٹ اسکیموں جیسے پی ایم جے بی وائی، پی ایم ایس بی وائی اور اے پی وائی تک رسائی سے استفادہ کیا ہے۔


کھاتوں میں جمع کی گئی رقم

پی ایم جے ڈی وائی اکاؤنٹس میں کل جمع شدہ رقم مارچ 2015 میں 15,670 کروڑ سے بڑھ کر شاندار 2,67,755 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو مستفیدین کے باضابطہ بینکنگ نظام پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور مالی سرگرمیوں میں ان کی فعال شرکت کی عکاسی کرتی ہے۔



جاری کردہ روپے ڈیبٹ کارڈز کی تعداد

پی ایم جے ڈی وائی کھاتہ داروں کو کل 38.68 کروڑ روپے ڈیبٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں، جو کیش لیس لین دین کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور ان بلٹ ایکسیڈنٹ انشورنس کو رتک رسائی فراہم کرتے ہیں۔



پی ایم جے ڈی وائی ہندوستان کے ڈیجیٹل ادائیگی کے انقلاب کا سنگ میل ہے۔ روپے کارڈز نے کیش لیس لین دین کو فروغ دیا ہے۔ ہندوستان اب عالمی رینک ٹائم ادائیگیوں میں سر فہرست ہے، پی ایم جے ڈی وائی لاکھوں لوگوں کو باضابطہ بینکنگ سسٹم میں لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

مالی خدمات تک رسائی سے متعلق مہم

حال ہی میں، محکمہ خزانہ نے پردھان منتری جن دھن یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، اور پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، اور پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، اور پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے لیے یکم جولائی 2025 سے 30 ستمبر 2025 تک تین ماہ کی ملک گیر رسائی مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا مقصد تمام گرام پنچایتوں اور راج بن لوکل باڈیز میں جامع کوریج حاصل کرنا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہر اہل شہری ان تبدیلی کی اسکیموں کے مطلوبہ فوائد حاصل کرے۔

پہلے مہینے (31 جولائی 2025 تک) مختلف ہندوستانی اضلاع میں کل 99,753 کمپ لگائے گئے ہیں تاکہ فلیگ شپ اسکیموں کے تحت استفادہ کنندگان کے اندراج کی سہولت اور مالی خواندگی کو فروغ دیا جاسکے۔ خاص طور پر، یہ کیমپس کمیونٹی کی شمولیت، اندراج میں مدد، تازہ ترین معلومات، اور بیداری کی کوششوں کے لیے اہم رابطہ پوائنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں۔

ان میں سے 31 جولائی 2025 تک 80,462 کمپیوں کی پراگریس رپورٹس تیار کی گئی ہیں۔ پہلے مہینے کی کامیابی کے علاوہ، تقریباً 6.6 لاکھ نئے پردھان منتری جن دھن یوجنا کے کھاتے کھولے گئے اور تین جن تحفظات اسکیموں کے تحت 22.65 لاکھ سے زیادہ نئے اندراج کیے گئے۔ 4.73 لاکھ سے زیادہ غیر فعال پردھان منتری جن دھن یوجنا اکاؤنٹس اور 5.65 لاکھ دیگر بچت کھاتوں کے لیے کے وائی سی تفصیلات کی دوبارہ تصدیق کی گئی۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت مالی شمولیت کو مضبوط بنانے اور اکاؤنٹ کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی بڑی سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں۔

نتیجہ

پردھان منتری جن دھن یوجنا (پی ایم جے ڈی وائی) کے 11 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس پہل نے ملک کے مالیاتی ماحولیاتی نظام کو نمایاں طور پر تبدیل کیا ہے۔ 2014 میں شروع کی گئی اس یوجنا نے نہ صرف بینکوں سے محروم افراد کو باضابطہ بینکاری نظام میں لانے کے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے بلکہ اس سے جامع اقتصادی ترقی کے لیے ایک ٹھوس فریم ورک بھی قائم ہوا ہے۔ 56 کروڑ سے زیادہ اکاؤنٹس کھولے گئے، جن میں تقریباً 30 کروڑ خواتین مستفیدین کے ساتھ ساتھ روپے ڈیٹ کارڈز کی وسیع تقسیم کے ساتھ، یہ اسکیم انتہائی دور دراز علاقوں خاص طور پر پسماندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد تک بھی پہنچ گئی ہے۔

مختلف سرکاری فلاحی اسکیموں کے ساتھ پی ایم جے ڈی وائی کھاتوں کا بغیر کسی رکاوٹ کے انضمام مالی شمولیت کو مزید تقویت دے رہا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فوائد براہ راست ہدف شدہ مستحقین تک پہنچیں۔ مستقبل میں، پی ایم جے ڈی وائی کی کامیابیاں اس کی توسیع کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہیں، جس سے عالمی مالیاتی رسائی کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ہندوستان کی اقتصادی ترقی میں شہریوں کی

بڑھ چڑھ کر حصہ داری ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے کا مقصد ان کوششوں کو مزید گہرا کرنا اور ہر فرد کو ملک کی مالیاتی ترقی کے دائرے میں لانا ہے۔

حوالہ جات:

وزارت خزانہ

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1952793>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152060>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2144990>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150999>

<https://www.pmjdy.gov.in>

الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت

<https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmjdy#sources>

[Click here to see PDF.](#)

Economy

11 Years of PM Jan Dhan Yojana: Banking the Unbanked
(Backgrounder ID: 155102)

ش.ح۔ک۔م۔ا

U NO-5389